



سوال

(169) کیا شہ عاہنختہ مکان بنانا جائز ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا شہ عاہنختہ مکان بنانا جائز ہے۔؟ اگر نہیں تو بنانے والا شرعاً کیسا ہے؟ قبر پختہ کی ممانعت پر قیاس کر کے کوئی آدمی زندوں کے لئے پختہ مکان بنانے کے متعلق کہہ سکتا ہے۔؟
(سید عبد الغفار رضوی)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

پختہ مکان حسب ضرورت بنانا جائز ہے۔ پختہ قبر پر اس کا قیاس جائز نہیں۔ قبر محل فنا ہے مکان محل رہائش ہے۔ **وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ**
ایک شخص دیوار لپیپ رہا تھا۔ حضرت نے اس کو فرمایا تھا کہ (الامر اقرب) موت اس سے زیادہ قریب ہے “یہ ایک زاہدانہ ارشاد تھا ممنوع نہ تھا۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شنائیہ امرتسری

جلد 2 ص 139

محدث فتویٰ